



# تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کرو اور (اگر کوئی گناہ ہو جائے تو) اس گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں سے حُسنِ اخلاق سے پیش آیا کرو

ابو ذر جندب بن جناد اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "تم جہاں کہیں بھی رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا کرو اور (اگر کوئی گناہ ہو جائے تو) اس گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں سے حُسنِ اخلاق سے پیش آیا کرو"

[ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے] [رواہ الترمذی]

اس حدیث میں اللہ کے نبی کے تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے: پہلی بات: تقویٰ اختیار کیا جائے تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب ہے، واجبات ادا کرنا اور حرام چیزوں کو ترک کرنا خواہ زمان و مکان اور حالات جو بھی ہوں، سری طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی، امن و سکون کے وقت بھی اور آزمائش کی گھڑی میں بھی دوسری بات: اگر کوئی برا کام ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اچھا کام کرو، جیسے نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، بھلائی کرنا، صلہ رحمی کرنا اور توبہ کرنا وغیرہ یہ چیزیں برائی اور گناہ کو ختم کر دیتی ہیں تیسری بات: لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ جیسے مسکرا کر ملنا، نرم برتاؤ کرنا، بھلائی کرنا اور تکلیف نہ دینا وغیرہ

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4302>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

